

سٹی آف برامپٹن نے 2021 کی جھلکیاں جاری کر دی ہیں، جن میں اپنی کلیدی کامیابیاں دکھائی ہیں

برامپٹن، آن (9 فروری 2022) – آج سٹی آف برامپٹن نے 2021 کے دوران کونسل کی مدت 2018-2022 کی ترجیحات پر ہونے والی پیش رفت کے حوالے سے ایک اپ ڈیٹ جاری کی ہے، جس میں گذشتہ سال کی اپنی کلیدی کامیابیوں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

شہر کو درپیش چیلنجوں کے باوجود اس نے کووڈ-19 وبائی مرض سے آگے بڑھنے کا عمل جاری رکھا اور ایسی مؤثر اور مفید خدمات فراہم کیں جو رہائشیوں کے لیے سب سے اہم تھیں اور کونسل کی اس مدت کی ترجیحات کو آگے بڑھانے میں اہم پیشرفت بھی حاصل کی ہے۔

کووڈ-19 کے دوران کمیونٹی کی معاونت

سٹی کی ٹاسک فورسز اور ری اوپننگ اینڈ ریکوری ورکنگ گروپ نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اپنا کام جاری رکھا کہ ہماری کمیونٹی میں موجود کووڈ-19 سے متاثر ہونے والے افراد اور کاروباروں کو امداد اور وسائل فراہم کیے جائیں اور اس ضمن میں وباء کے آغاز سے اب تک اپنی کاوشوں کے ذریعے کووڈ سے متعلق \$120 ملین سے زیادہ کی فنڈنگ بھی حاصل کی ہے۔

ان جھلکیوں میں سے کچھ درج ذیل ہیں:

- سوشل سپورٹ ٹاسک فورس نے کمیونٹی تنظیموں میں سینئرٹائزر کے 350 سے زیادہ ڈبوں اور اینٹی بیکٹیریل وائپس کے 200 ڈبوں کی تقسیم کے عمل کو مربوط کیا؛ اور 'پیل ہنگر ریلیف نیٹ ورک' کو تقویت پہنچانے کے لیے پیل میں فوڈ ڈسٹری بیوٹرز کے ساتھ شراکت داری کی۔
- سینئر سپورٹ ٹاسک فورس نے برامپٹن ریکرییشن کے ساتھ مل کر سینئرز ڈیجیٹل کیفے کے ذریعے 51 میٹنگز کا بندوبست کیا؛ اور ریجن آف پیلز کمیونٹی ریسپانس ٹیبل سینئرز کے ذیلی گروپ اور ماس ویکسینیشن کمیٹی کی معاونت میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔
- یوتھ سپورٹ ٹاسک فورس نے نوجوانوں کو فعال اور تفریحی سرگرمیوں میں مصروف رہنے کی ترغیب دینے کے لیے مفت انٹرایکٹو اور جامع سوشل میڈیا سرگرمیوں اور گیمز کے علاوہ جسمانی فٹنس کے پروگراموں اور تقریبات کی میزبانی کی؛ اور نوجوانوں کو خدمات فراہم کرنے والی 40 سے زائد تنظیموں کے نیٹ ورک کے ذریعے خدمات کی بھرپور اعانت کی۔
- اکنامک سپورٹ ٹاسک فورس نے تین چھوٹی کاروباری راؤنڈ ٹیبل نشستیں منعقد کیں، جن میں تقریباً 60 چھوٹے کاروباری ادارے موجود تھے؛ اور برامپٹن انٹریپرائیور سنٹر کے ذریعے 850 چھوٹے کاروباری اداروں کو 78,800 ریپڈ اینٹیجین ٹیسٹ فراہم کیے گئے۔
- ری اوپننگ اینڈ ریکوری ورکنگ گروپ نے سٹیک ہولڈرز کی دو نشستیں منعقد کیں جن میں 55 سے زیادہ کمیونٹی گروپس کو شامل کیا گیا تاکہ شہر کی سہولیات اور پروگراموں کو محفوظ طریقے سے دوبارہ کھولنے کے حوالے سے ان کے ساتھ تبادلہ خیال کیا جا سکے؛ اور ورکنگ گروپ چیئر نے ہائی لاء اینڈ انفورسمنٹ اور پیل ریجن کے میڈیکل آفیسر آف ہیلتھ کے ساتھ مل کر سوشل میڈیا پر متعدد عوامی سرگرمیوں کا انعقاد کیا۔

برامپٹن مواقع کا شہر ہے

سٹی نے شہریوں کی زندگی اور خوشحالی میں بہتری لانے کے لیے عملی اقدامات اٹھائے ہیں:

- کونسل سے منظور شدہ سستی رہائش کی حکمت عملی کے لیے \$8.4 ملین مختص کیے گئے
- نئے انٹیگریٹڈ ڈاؤن ٹاؤن پلان کے حصے کے طور پر اسٹریٹ سکیننگ کے کام میں \$16.6 ملین کی سرمایہ کاری کی

- ریجن آف پبل فار ویلکمنگ سٹریٹس کے پائلٹ پروگرام سے \$250,000 موصول ہوئے، جس کا مقصد کمیونٹی کی حفاظت کو بہتر بناتے ہوئے ڈاؤن ٹاؤن کی کمیونٹیز کی معاونت فراہم کرنا ہے
- برامپٹن کے انوویشن ڈسٹرکٹ میں بین الاقوامی کاروباریوں کے لیے 14 سٹارٹ اپس کے ساتھ بی ہائیو برامپٹن (BHive Brampton) کا آغاز کیا

برامپٹن مختلف کمیونٹیز پر مشتمل ایک خوبصورت گلدستہ ہے

سٹی برامپٹن کے تنوع کا جشن مناتا ہے اور تنوع کو پورے شہر کے دلوں کی دھڑکن بنانے کے لیے ایک جامع فریم ورک تیار کر رہا ہے:

- 70 تنظیموں کو ایڈوانس برامپٹن فنڈ کے ذریعے فنڈز فراہم کیے گئے، جن میں \$675,238 تقسیم کیے گئے
- برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کی جانب سے متنوع کمیونٹیز کے لیے منعقد کی جانے والی کیریئر کی معلوماتی نشستوں میں 500 سے زیادہ شرکاء نے شرکت کی
- کمیونٹی کی جانب سے منعقد کی جانے والی 6 تقریبات کے لیے مارکی فیسٹیول (Marquee Festival) اور ایونٹس فنڈ (Events Fund) کے ذریعے \$290,775 فراہم کیے
- برامپٹن کی آرٹس، کلچر اینڈ کریٹیو انڈسٹری ڈیولپمنٹ ایجنسی (ACCIDA) نے متنوع اور پسماندہ گروہوں کی شمولیت، تقریبات اور ان کے لیے مواقع پیدا کرنے کو اولین ترجیح دی

برامپٹن ایک گرین سٹی ہے

سٹی ماحولیاتی استحکام پیدا کر رہا ہے:

- اونٹاریو کی پہلی میونسپلٹی، جس نے مکمل طور پر بجلی سے چلنے والا فائر ٹرک خریدا
- برامپٹن ٹرانزٹ فلیٹ میں آٹھ الیکٹرک بسوں کو شامل کیا گیا
- بیٹسمین پارک ووڈ لاک کی بحالی کے لیے CN اور ٹری کینیڈا سے \$25,000 گرانٹ وصول کی
- 8,000 درخت لگانے کے لیے حکومت کینیڈا سے \$1.2 ملین ڈالر حاصل کیے

برامپٹن ایک صحت مندانہ اور محفوظ شہر ہے

سٹی کا بنیادی مقصد کمیونٹی کی سیفٹی پر توجہ مرکوز کرنا، ذہنی صحت کی معاونت میں بہتری لانا اور ایک فعال اور صحت بخش طرز زندگی کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔

- جیز کیئر فاؤنڈیشن (Jays Care Foundation) اور پبل ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ کے ساتھ شراکت میں، جوڈتھ نیمین فیلڈ آف ڈریمز (Judith Nyman Field of Dreams) کو مکمل کیا گیا ہے، جو ایک قابل رسائی بیس بال ڈائمنڈ ہے
- تمام استعمال کنندگان کے لیے سڑکوں کو محفوظ بنانے میں مدد فراہم کرنے کے لیے شہر میں 50 خودکار سپیڈ انفورسمنٹ کیمرے نصب کیے گئے (اونٹاریو میں سب سے بڑا ASE پروگرام)
- سڑکوں کو محفوظ رکھنے کے لیے شہر بھر میں 180 کمیونٹی سیفٹی زونز کا تعین کیا گیا
- برامپٹن اینیمل سروسز، ہوم ٹو ہوم™ انٹرایکٹو کے ذریعے پالتو جانوروں کو دوبارہ کوئی گھر دینے والی کینیڈا کی پہلی سروس بن گئی ہے اور اب تک 103 جانوروں کو دوبارہ گھر بھیجا چکا ہے

برامپٹن بہترین طرز حکمرانی کا حامل شہر ہے

برامپٹن اپنے روزمرہ کے اقدامات میں بہتری لا رہا ہے:

- مسلسل 6 ویں سال S&P ٹرپل اے کریڈٹ ریٹنگ برقرار رکھی، جو کہ شہر کی مضبوط معیشت اور بہترین مالیاتی انتظامات کی عکاسی کرتی ہے
- کینیڈا میں 2021 میں بہترین کمیونٹیز کے لیے میکین کی فہرست میں 13 واں نمبر
- فوربز کینیڈا کی جانب سے بہترین ایمپلائرز 2021 میں سے ایک کے طور پر درجہ بندی
- 10,463 رہائشی پرمٹ اور 1,145 صنعتی، تجارتی اور ادارہ جاتی پرمٹ جاری کیے گئے، جن کی تعمیرات رقم \$1.726 بلین بنتی ہے

- قومی خزانے میں \$117 ملین کی ریکارڈ شراکت کو برقرار رکھتے ہوئے اور نئے پیل میموریل ہسپتال کے لیے \$62.5 ملین کے فنڈز مختص کر کے صحت کی دیکھ بھال میں توسیع کے حوالے سے سٹی کی وابستگی کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے لگاتار چوتھی بار بھی ٹیکس کی شرح کو منجمد رکھا گیا

2021 کی جھلکیوں اور کامیابیوں کے بارے میں مزید معلومات کے لیے www.brampton.ca/tocp ملاحظہ کریں۔

اقتباسات

"ہمیں درپیش قابو سے باہر چیلنجوں کے باوجود، سٹی نے 2021 کے دوران اپنی اہم ترجیحات پر نمایاں پیش رفت جاری رکھی ہے۔ مکمل طور پر الیکٹرک فائر ٹرک خرید کر ماحولیاتی استحکام میں اپنے آپ کو ایک رہنماء کے طور پر منوانے سے لے کر، ہمارے ڈاؤن ٹاؤن کے لیے \$16.6 ملین کی اسٹریٹ سکیننگ سرمایہ کاری کو منظور کرنے تک، قومی ذخائر میں ریکارڈ شراکت کو برقرار رکھتے ہوئے مسلسل چوتھی بار بھی ٹیکس کی شرح کو منجمد کرنے تک اور شہر سے اپنی وابستگی کو ظاہر کرتے ہوئے صحت کی دیکھ بھال کی توسیع تک، ہم نے اپنے رہائشیوں اور کاروباروں کے لیے بہترین نتائج حاصل کرنے کا سفر جاری رکھا ہوا ہے۔ ہم 2022 میں بھی اس کام کو جاری رکھنے کے خواہشمند ہیں۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"2021 میں، ہمیں متعدد چیلنج درپیش رہے ہیں، کیونکہ ہم کووڈ-19 وباء کے دوران آگے بڑھتے رہے ہیں، لیکن ہمارے عملے نے اپنے رہائشیوں، کاروباروں اور کمیونٹی گروپس کی مدد جاری رکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ کونسل کی ترجیحات کی اس مدت کو آگے بڑھانے پر بھرپور توجہ کے ساتھ، ہم نے اہم اقدامات کی فراہمی اور اپنے شہر کو آگے بڑھانا بھی جاری رکھا۔ 2021 میں ہماری ٹیم نے جو پیش رفت کی ہے اس پر مجھے فخر ہے اور ہمارے رہائشیوں کے لیے انہوں نے جو مؤثر اور مفید خدمات سر انجام دی ہیں وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 لوگوں اور 75,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے www.brampton.ca ملاحظہ کریں۔

میڈیا کنٹیکٹ

سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا

multiculturalmedia@brampton.ca